

سوال

لڑکی کو کس طرح بتانے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے

جواب

نکاح

جب کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ وہ کسی عورت کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اسے شرعی طریقہ اپنانا چاہیے، اور یہ نکاح کا طریقہ ہے، جب کوئی شخص کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے معنی کا پیغام دے اور لڑکی کے ولی کے ذریعہ اس سے معنی کرے۔

لڑکی کا ولی اس کا والد ہے اور اگر والد نہیں تو اس کے بعد اس کا قریبی رشتہ دار، یہ جائز نہیں کہ عورت سے معنی میں غیر شرعی طریقہ اپنایا جائے اور اس سے تعارف وغیرہ ہوتا ہے اور تعلقات قائم کیے جائیں اور ٹیلی فون کالیں یا پھر رابطے ہوں یہ سب کچھ غیر شرعی اور شیطانی راستے ہیں جو برائی اور مصیبت

ایسا کرنے والا وہ کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور پھر کسی شخص کی یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی کہ وہ کسی لڑکی سے اپنے تعلقات بہتہ کرتا رہے اور دلیل یہ دے کہ وہ اس کی بہن کی طرح ہے یا پھر اس کے لیے واجبی اور کمزور قسم کی دلیلیں دیتا پھر سے۔

اس لیے آپ پر ضروری ہے کہ آپ گھر میں اس کے دروازے میں سے داخل ہوں، اور اس لڑکی کے قریب ہونے کے لیے شرعی راستہ اختیار کریں، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ معنی کے وقت اپنی طرف راغب کرنے اور شادی پر موافقت کرنے کے لیے اس کے ولی کے ذریعہ کوئی شخص دیں (ا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ توفیق اور سیدھا راستہ نصیب فرمائے اور حرام کردہ اشیاء سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے، آپ سوال نمبر (2572) کا بھی مطالعہ کریں۔

واللہ اعلم

اسلام سوال و جواب

11618